



جماعت نہم
ترجمۃ القرآن المجید (حصہ معروضی) گروپ دوسرا
کل نمبر: 10

Objective Paper
Code

5354

سوال نمبر 1 ہر سوال کے چار مکمل جوابات A, B, C, D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پتھن سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کر یا کاٹ کر نہ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

نمبر شمار	سوالات / Questions	A	B	C	D
1	أَشْدُّ کا معنی ہے۔ Meaning of أَشْدُّ is:	سخت کر دے Make it hard	نرم کر دے Make it soft	مضبوط کر دے Make it strong	آسان کر دے Make it easy
2	سورۃ التکوین کی آیات کی تعداد ہے: Number of verses of Sura-tul-Ankaboot is:	68	69	70	71
3	قارون کا تعلق تھا: Qaroon belonged to:	بنی اسرائیل Bani Israeel	قوم عاد Aad nation	قوم لوط Loot nation	قوم ثمود Samood nation
4	سورۃ النمل میں سب سے تفصیلی تذکرہ ہے: The most detailed mention in Sura-tul-Namal is about:	حضرت صالح علیہ السلام کا Hazrat Saleh علیہ السلام	حضرت لوط علیہ السلام کا Hazrat Loot علیہ السلام	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا Hazrat Musa علیہ السلام	حضرت سلیمان علیہ السلام کا Hazrat Suleman علیہ السلام
5	قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ The Holy Quran was revealed in:	فارسی Persian	عربی Arabic	عبرانی Hebrew	انگریزی English

(جاری ہے)

----- ﴿﴾ ----- یہاں سے کاٹ کر تقسیم کیجئے ﴿﴾ ----- یہاں سے کاٹ کر تقسیم کیجئے ﴿﴾ -----



- 2 -

Objective Paper Code 5354

نمبر شمار	سوالات / Questions	A	B	C	D
6	رُحَمَاءُ کے بندے زمین پر چلتے ہیں: The slaves of Allah Almighty walk on earth:	تیز تیز Fastly	آہستہ آہستہ Slowly	اکڑا کر Stubbornly	اجازت کے ساتھ Humility
7	پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی: Jihad was allowed for the first time:	سورہ مریم میں Surah Maryam	سورہ طہ میں Surah Taha	سورۃ الحج میں Sura-tul-Hajj	سورۃ الانبیاء میں Sura-tul-Anbiya
8	ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے: We should call in trouble:	طاقتوروں کو To powerful	اللہ تعالیٰ کو To Allah Almighty	بزرگواروں کو To saints	ڈاکٹروں کو To doctors
9	سورہ طہ کی آیات کی تعداد ہے: Number of verses of Surah Taha is:	130	135	136	137
10	سورہ مریم کے مطابق تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دعوت دی: According to Surah Maryam all Prophets preached their nations:	دعا کرنے کی To pray	ایک اللہ کی عبادت کرنے کی To worship Allah Almighty	رزق حلال حاصل کرنے کی To halal earning	سچ بولنے کی To speak the truth